



1/8/2021

موضوع: اسکول کی عمارت کا 24 گھنٹوں کے لیے بند ہونا

عزیزی P.S. 205 - BROOKLYN - K205 at 6701 20 AVENUE اہل خانہ:

نیویارک شہر محکمہ صحت اور دماغی صحت (DOHMH) اور نیویارک شہر ٹسٹ + ٹریس کارپس (T2) کی ایک تشخیص کے نتیجے میں، ہماری اسکول برادری کے دو یا زیادہ ممبران کے ٹسٹ کا نتیجہ ایک دوسرے کے سات دنوں کے اندر مثبت آیا ہے۔ اس کے نتیجے میں، اسکول کی عمارت ابتدائی 24 گھنٹوں کے لیے بند رہے گی تاکہ نیویارک شہر محکمہ صحت اور دماغی صحت (DOHMH) پھیلاؤ کے ذریعے (ذرائع) کی تفتیش کر سکے۔

ذیل میں آپکو رہنمائی ملے گی جو (DOHMH)، نیویارک شہر محکمہ تعلیم (DOE) اور نیویارک شہر ٹسٹ اینڈ ٹریس کارپس (T2) کی ماہرانہ رائے کی عکاسی کرتی ہے۔

اب کیا ہوگا؟

- 1/11/2021 سے نافذ العمل، اسکول کی عمارت ابتدائی طور پر 24 گھنٹے کے لیے بند رہے گی۔ اس دوران میں تمام طلبا مکمل ریموٹ تعلیم میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس وقت کے دوران، T2 اور DOHMH اپنی تفتیش مکمل کر لیں گے اور اسکول کو صاف اور جراثیم سے پاک کیا جائے گا۔
- متاثرہ کلاس روم (رومز) میں موجود تمام طلبا اور عملے کو مثبت ٹیسٹ آنے والے فرد کے "قریبی رابطے" میں سمجھا جائے گا، اور ان کو مطلع کیا جائے گا کہ مثبت ٹیسٹ رکھنے والے فرد کے ساتھ ان کے آخری رابطے کے وقت سے ان کو 14 ایام کے لیے کوارنٹین کرنا ہوگا۔ یہ تمام طلبا اور عملہ اس دورانیے میں ریموٹ تعلیم و تدریس میں منتقل ہوں گے۔
- COVID-19 ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ آنے والے کسی بھی فرد کو اسکول واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ صحتیاب نہ ہو جائیں۔
- T2 اور DOHMH عمارت میں کسی بھی دیگر قریبی رابطے کی نشان دہی کرنے یا ان کو مطلع کرنے کے لیے اپنی تفتیش مکمل کرے گا، ان افراد کو بھی 14 دن کے لیے کوارنٹین کرنا ہوگا۔
- تفتیش کے نتیجے کی بنیاد پر، میں آپ کو ہر رات ان کے لیے اگلی صبح اسکول کھلنے کے متعلق مطلع کروں گا جو کسی قریبی رابطے میں نہیں آئے ہیں۔

ہم صحتمند کس طرح رہیں؟

برائے مہربانی COVID-19 کے پھیلاؤ کا انسداد کرنے کے لیے ان "بنیادی چار" اہم اعمال کی پابندی کرنے کو یاد رکھیں:

1. اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر رہیں (ماسوا لازمی طبی نگہداشت لینے کے لیے، بشمول COVID-19 ٹسٹنگ)۔
2. میل جول میں فاصلہ رکھیں: ان لوگوں سے کم سے کم سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں جو آپکے گھرانے کے افراد نہیں ہیں۔
3. COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے چہرے کا ماسک پہنیں۔

4. **باتھوں کی حفظان صحت کا عمل اپنائیں:** اپنے باتھوں کو اکثر دھوئیں یا ایک الکوحل پر مبنی باتھوں کا جراثیم کش استعمال کریں؛ اپنے چہرے کو چھونے سے اجتناب کریں اور اپنی کھانسی یا چھینک کو اپنے بازوں سے ڈھانپیں نہ کہ اپنے باتھوں سے۔

میں تازہ خبروں سے کس طرح باخبر رہ سکتا ہوں؟

ہم عوامی صحت کے ماہرین کی ہدایات پر سختی سے پابندی کرنا جاری رکھیں گے اور ہم ہماری جانب سے کیے جانے والے کسی بھی اقدامات سے آپ کو لمحہ بہ لمحہ مطلع رکھیں گے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیکسٹ یا ای میل کے ذریعے فوری طور پر رابطہ کرنے کے قابل ہیں، براہ کرم schools.nyc.gov/nycsa پر جا کر جتنا جلد ممکن ہو نیو یارک شہر اسکولز اکاؤنٹ (NYCSA) بنائیں۔

نیویارک کے مکینوں کو کوارنٹین میں مدد کرنے کے لیے، نیویارک شہر ٹسٹ+ٹریس کارپس برادری پر مبنی تنظیموں کی شراکت میں افراد کو وسائل سے مربوط کرنے میں مدد کرتی ہے، جیسے غذا، دوائی، اور صحتیاتی نگہداشت۔ ان وسائل سے رابطہ کرنے کے لیے (212-268-4319) COVID19-212 کو کال کریں۔

COVID-19 کی اضافی معلومات کے لیے schools.nyc.gov/coronavirus پر جائیں یا 311 پر رابطہ کریں۔

بخلوص،

Feiga Mandel